



### سٹی آف برامپٹن نے کووڈ-19 کے حوالے سے فیس ماسک پہننے کی شرط سے متعلق اپنے ضمنی قانون میں تجدید اور توسیع کر دی ہے

برامپٹن، آن (17 جون 2021) – پیل پبلک ہیلتھ کی رہنمائی پر عمل درآمد کرتے ہوئے سٹی آف برامپٹن نے کووڈ-19 کے حوالے سے فیس ماسک لازمی طور پر پہننے کی شرط کے اپنے ضمنی قانون (مینڈیٹری فیس کورنگز ہائی لاء) میں تجدید اور 30 ستمبر 2021 تک توسیع کر دی ہے۔

مینڈیٹری فیس کورنگز ہائی لاء کے مطابق، برامپٹن میں موجود تمام اندرونی عوامی مقامات کے اندر نان میڈیکل ماسک کا استعمال لازمی ہے۔ اس سے پہلے، اسکارف، مفلر، گلوبند یا گردن گرم رکھنے والی اشیاء اور سانس لینے کے لیے والوز کے حامل ماسک کو فیس کورنگز کی قابل قبول چیزیں مانا جاتا تھا۔ ترمیم شدہ ضمنی قانون کے مطابق اب ان اقسام کی فیس کورنگز کی اجازت نہیں ہو گی۔ ترمیم شدہ ضمنی قانون کے مطابق، ماسک صرف اسی صورت میں اتارے جا سکتے ہیں جب کوئی شخص کھانے پینے کے لیے مختص کردہ کسی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر کھانا پینا چاہتا ہو۔

اگرچہ ریجن آف پیل میں ویکسین لگانے کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے مگر اس کے باوجود وائرس کی نئی شکلیں سامنے آنے کی وجہ سے کووڈ-19 کی انفیکشن پھیلنے کی شرح میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شہریوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور انہیں جسمانی فاصلہ بندی، حفظان صحت کے اصولوں پر عمل درآمد اور ماسک پہننا جاری رکھنا چاہیے۔

نان میڈیکل ماسک کے موزوں استعمال اور دیگر پرسنل پروٹیکٹو ایکوئپمنٹ (PPE) کے استعمال کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، براہ کرم [peelregion.ca/coronavirus/prevention/#masks](https://peelregion.ca/coronavirus/prevention/#masks) ملاحظہ کریں۔

کاروباری اداروں اور سہولت گاہوں کے منتظمین کے لیے دستیاب وسائل اور اضافی معلومات [brampton.ca/masks](https://brampton.ca/masks) پر دستیاب ہے۔

کووڈ-19 کے خلاف سٹی آف برامپٹن کے اقدامات کے حوالے سے تازہ ترین معلومات کے لیے [brampton.ca/COVID19](https://brampton.ca/COVID19) ملاحظہ کریں۔

30--

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)